

NYC اسکولز اکاونٹ

جانزہ

NYC اسکولز اکاونٹ (NYCSA) ویب پر بنائی گئی ہے جس سے آپ اپنے بچے کی تعلیمی اور سوانحی معلومات کسی بھی کمپیوٹر، فون یا ٹیبلیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا انگریزی کے علاوہ 9 زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس اکاونٹ میں آپ ایک بچے کی درج ذیل معلومات دیکھ سکتے ہیں:

- حاضری
- گریڈز
- تشخیصی (test scores)
- صحت کی معلومات (Fitnessgram)
- جدول:
- سرپرست
- داخلہ تاریخ

میں NYC اسکولز اکاونٹ کیسے تخلیق کروں؟

دو طریقوں سے آپ نیویارک شہر اسکولز اکاونٹ تخلیق کر سکتے ہیں۔ یا تو خود اسکول جا کر ایک عارضی پاس ورڈ حاصل کریں یا بچے کے ساتھ خط میں جو اکاونٹ تخلیق کوڈ بھیجا گیا ہے، اسے استعمال کریں۔

ذاتی طور پر:

1. اپنے بچے کے اسکول کے ساتھ وقت ملاقات کا انتظام کریں۔
2. آپ کا ایک مستند تصویری آئی ڈی F رابم کیجیے (مثلاً، آپ کا پاسپورٹ، آپ کا ڈرائیور لائسنس، IDNYC، آپکا ای میل پتہ، اور آپ کے بچے کا 9 ہندسے والا آئی ڈی نمبر، جو آپ کو اس کے رپورٹ کارڈ میں مل جائے گا۔
3. اگر آپ اپنے اسکول میں جا کر اکاونٹ بناتے ہیں تو آپکو ایک رسید موصول ہوگی جس پر ایک عارضی پاس ورڈ درج ہوگا۔
4. <http://mystudent.nyc> پر جائیں اور اپنا ای میل پتہ اور عارضی پاس ورڈ تحریر کریں۔ آپ سے اپنے اکاونٹ کے لیے ایک نیا پاس ورڈ تخلیق کرنے کو کہا جائے گا، اپنے حفاظتی سوال ترتیب دیں اور اپنے ای میل پتے کی تصدیق کریں۔

آن لائن

آپ کو اکاونٹ تخلیق کرنے کے لیے اکاونٹ تخلیق کوڈ درکار ہو گا جو آپ کو آپ کے بچے کے ساتھ ایک خط میں بھیج دیا گیا ہے۔ آپ اپنے بچے کے اسکول سے خط کے بارے میں درخواست کر سکتے ہیں۔ آپکو NYC اکاونٹ تخلیق کرنے یا اپنے موجودہ اکاونٹ میں اضافی بچوں کو شامل کرنے کے لیے یہ کوڈ اور اپنے بچے کا 9 عددی طالبانہ آئی ڈی نمبر درکار ہوگا۔

1. <http://mystudent.nyc> پر جائیں اور لاگ ان صفحے پر "Create Account" لنک کا انتخاب کریں۔
2. اپنے بچے کا 9 عددی طالب علم آئی ڈی نمبر درج کریں۔ آپ اپنے بچے کی رپورٹ کارڈ پر اس کا طالب علم آئی ڈی نمبر تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپکے پاس آپکے بچے کا آئی ڈی نمبر نہیں ہے تو اپنے اسکول سے رجوع کریں۔
3. ایک اچھوتا اکاونٹ تخلیق کوڈ استعمال کریں۔
4. اپنا ای - میل پتہ ڈالیں اور ایک نیا پاس ورڈ تخلیق کیجیے۔
5. "Create Account" کو چنیں اور پھر اپنی ای میل اور پاس ورڈ کے ذریعے لاگ ان کرنے کے لیے "SIGN IN" کریں۔
6. پہلی مرتبہ سائن ان کرنے کے بعد، آپ کو تین حفاظتی سوالات منتخب کرنے، اور انکے جواب دینے ہونگے اور اپنے ای میل پتے کی تصدیق کریں۔

آپ کے بچے کی معلومات کی باہمی رسائی

اب آپ دوسرے صاحبان کو، جو آپ کے بچے کے اسکول ریکارڈ سے منسلک ہیں، اپنے اکاؤنٹ کھولنے کی دعوت دے سکتے ہیں آپ اپنے رشتہ داروں، بے بی سٹرز، پڑوسی، یا ٹیوٹر یا کوئی والدین جو کہیں اور رہتے ہوں، یا کسی ایسے کو جس سے آپ ان معلومات کے تبادلے کو ضروری سمجھتے ہوں، دعوت دیں۔ مگر کیونکہ کچھ معلومات اسکولز خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے کہیں گے کہ دوسروں کو دعوت دیتے وقت محتاط رہیں۔ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کو کتنی زیادہ یا کم معلومات تک رسائی دینی ہے۔

سائنز ان ہونے کے بعد Manage User Access صفحے پر جائیں۔ یہاں آپ ان اصحاب کو دیکھ سکتے ہیں جن سے آپ اپنے بچے کی معلومات بانٹ سکتے ہیں۔ آپ جن سے اکاؤنٹ بانٹنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے بچے کا طالب علم آئی ڈی نمبر دیجئیے۔ اس نمبر کے بغیر وہ ملنے کے عمل اکاؤنٹ مکمل کرنے سے قاصر رہیں گے۔

میری رسائی کن معلومات تک ہے۔

آپ کے بچے کے ریکارڈ سے منسلک افراد کا کردار کا تعین اس طرح سے کیا گیا ہے، تولیتی، غیر تولیتی یا اضافی صارفین۔ ان سے اس بات کا تعین ہو گا کہ کون آپ کے بچے کے بارے میں معلومات میں، کونسی معلومات دیکھ سکتا ہے۔

- تولیتی صارفین کی حیثیت سے آپ اپنے بچے کی تمام معلومات جو نیویارک NYC اکاؤنٹ پر موجود ہیں، دیکھ سکیں گے۔ آپ کسی اور صاحب کو بھی اپنے بچے کی معلومات دیکھنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔
- غیر تولیتی صارفین کی حیثیت سے آپ اپنے بچے کے بارے میں کافی معلومات NYC اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔
- اضافی صارفین کے حیثیت سے آپ اتنی ہی معلومات دیکھ سکتے ہیں جتنا بچے کے والدین چاہیں۔

مجھے NYC اکاؤنٹ کے بارے میں کہاں سے مدد مل سکتی ہے؟

اگر آپکو اپنے اکاؤنٹ کو استعمال کرنے میں مدد درکار ہے یا سوالات ہیں، تو اپنے بچے کے اسکول سے رابطہ کریں یا 311 کو فون کریں۔ آپ کو مزید جاننے کے لیے NYC اسکولز اکاؤنٹ کے ویب صفحے پر جانا ہوگا <http://schools.nyc.gov/nycschools>.

مجھے NYC اسکولز اکاؤنٹ پہ ایک بچے کی معلومات دیکھنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟

آپکو اکاؤنٹ تخلیقی کوڈ اور بچے کا 9 عددی طالب علم آئی ڈی درکار ہونگے، جنکا بچے کے تولیتی والدین کا آپکو دینا ضروری ہے۔ NYC اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، آپ کو دونوں معلومات درکار ہونگی یا پھر بچے کو اپنے موجودہ NYC اکاؤنٹ میں شامل کر لیجئے۔

بچے کے بارے میں آپ کتنی معلومات دیکھ سکیں گے، اس کا انحصار بچے کے تولیتی والدین پر ہے کہ وہ آپ کو کس حد تک رسائی دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے، بچے کے NYC اسکولز اکاؤنٹ کے بارے میں سوالات ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ آپ بچے کے تولیتی والدین سے بات کریں۔

پہلے میرے پاس بچے کی NYC اسکولز اکاؤنٹ تک تمام معلومات تک رسائی تھی، اور اب کم ہیں۔

اگر آپ کی بچے کی معلومات تک رسائی NYC اسکولز اکاؤنٹ میں تبدیلی آئی ہے، تو اسکی وجہ یہ ہے کہ تولیتی والدین نے اسکو تبدیل کیا ہے۔